

## لسانیات

- ۲۰۔ انعم السوانح فی شرح کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم (م ۵۲۸ء) کی کتاب نوایح کی شرح ہے۔  
 ۲۱۔ ترجمہ ہفتاد سنائی سعدی: شرف الدین سعدی شیرازی (م ۶۹۱ھ) کی بوستان کاتر کی زبان میں ترجمہ ہے۔

## ماخذ

- ۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام  
 ۲۔ الفوائد البہیہ (عبدالمجلی کھنوی)  
 ۳۔ حکمائے اسلام حصہ دوم (عبدالسلام ندوی)  
 ۴۔ تاریخ بخارا (اردو ترجمہ) ارمنیس دیبر سے  
 ۵۔ مقدمہ ابن خلدون (ابن خلدون)

## ”اس قوم کی پھر عزت و عظمت نہیں رہتی“

عبدالرحمن عاصم (مالین کوٹلیوی)

جس قوم میں اللہ کی طاعت نہیں رہتی  
 جس قوم میں تنظیم جماعت نہیں رہتی  
 جس قوم کے افکار میں وحدت نہیں رہتی  
 جو قوم سے و نغمہ سے ہوجاتی ہے مانوس  
 ارباب حکومت کہیں ہوجائیں جو عیاش  
 بے پردگی و پردہ نسواں ہئے برابر  
 آتے ہیں کبھی سامنے اعمال جو اپنے  
 احساس گنہگار سے بھی ہوجائے جو محروم  
 پھنس جاتے ہیں دل حلقہ افکار جہاں میں  
 اس دور جوانی کو نہ غفلت میں گزارو  
 بے سورد ہے اس دم کسی نیکی کی تمنا

اس قوم کی چاہت نہیں رہتی  
 اس قوم کی پھر بہت و درشت نہیں رہتی  
 اس قوم کی پھر عزت و عظمت نہیں رہتی  
 اس قوم میں پھر روج شجاعت نہیں رہتی  
 پھر ملک نہیں رہتا حکومت نہیں رہتی  
 نظروں میں انہیں کہ جنہیں غیرت نہیں رہتی  
 اس وقت پھر اپنی کوئی وقعت نہیں رہتی  
 اس دل کی پھر اصلاح کی صورت نہیں رہتی  
 جب فکر اجل، فکر قیامت نہیں رہتی  
 پیروی میں عبادت کی بھی قوت نہیں رہتی  
 جب نطق و اشارہ کی بھی قوت نہیں رہتی

عاجز کہیں آجائے نہ وہ وقت اچانک!

جس وقت کہ تو بڑی بھی اہلت نہیں رہتے!